



سوال

(143) مریض کا تیمم کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اگر مریض کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہو تو کیا وہ اس کے لیے تیمم کر سکتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

وہ اس کے لیے تیمم نہیں کر سکتا۔ مریض کے لیے اگر ممکن ہو کہ وہ اس نجاست کو دھو سکتا ہے تو دھولے، ورنہ اسی حالت میں بغیر تیمم کے نماز پڑھے، کیونکہ نجاست کے دور کرنے میں تیمم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ بلکہ مطلوب یہ ہے کہ جسم نجاست سے صاف ہو، تو اگر اس کے لیے تیمم کرے گا تو اس سے نجاست زائل نہ ہوگی، نیز یہ بھی ہے کہ تیمم ازالہ نجاست کے لیے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ اور عبادت کی بنیاد سراسر اتباع (کتاب و سنت) ہی پر ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 177

محدث فتویٰ